

سید فضل الرحمن

قاموس الحدیث



باب الهمزہ

اِتْرَاصٌ: ٹھیک کرنا۔ درست کرنا۔ برابر کرنا۔ سیدھا کرنا۔ اِتْرِضْ مِيْزَانَكَ فَاِنَّهُ شَانِلٌ۔ اپنا ترازو برابر کرنا، وہ ایک ایک طرف سے اٹھا ہوا ہے۔

اِتْرَاعٌ: بھردینا۔

اِتْرَافٌ: آرام و آسائش کی وجہ سے پھول جانا۔ سرکش ہو جانا۔ نافرمانی پر اصرار کرنا۔

اِتْعَابٌ: تھکانا۔ مشقت میں ڈالنا۔

اِتَّقَفَ: وہ ٹھہر گیا۔

اِتْقَانٌ: مضبوط کرنا۔ پختہ کرنا۔ مہارت۔ خوبی۔

اِتَّقَنَ: مضبوط کرنا۔ پختہ کرنا، مہارت حاصل کرنا۔ صُنِعَ اللّٰهُ الَّذِي اِتَّقَنَ كُلَّ شَيْءٍ۔ اللہ کی کاری گری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے۔

اِتْلَاءٌ: پیچھے لگانا۔ آگے بڑھ جانا۔

اِتْمَامٌ: پورا کرنا۔ دینا۔ قصد کرنا۔

أَنْهَمَ: تہامہ میں آنا۔ آب وہوا کا موافق نہ آنا۔

باب التا

تَاجُ: تاج۔ سہرا۔ جَمْعُ تَيْجَانٍ، أُنْوَاجٌ، الْعَمَائِمُ تَيْجَانُ الْعَرَبِ۔ عَمَاءُ عَرَبِ كَلُوكُوں كے تاج ہیں۔

تَارَةٌ: ایک بار۔

تَارٌ: موٹا۔ فریبہ۔

تَارِزٌ: سخت۔ مضبوط۔ خشک چیز۔ بے جان چیز۔

تَارِسٌ: ڈھال سے مسلح۔ ڈھال لگانے والا۔

تَارِكٌ: چھوڑنے والا۔ ترک کرنے والا۔ وراثت کا مال چھوڑنے والا۔

تَاسُوْعٌ: نویں تاریخ۔ لَنْ يَبْقِيَتْ اِلَى قَابِلٍ لَّا صَوْمَنَّ تَاسُوْعًا۔ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو محرم کی نویں تاریخ کو روزہ رکھوں گا۔

تَافِيَةٌ: حقیر۔ ذلیل۔ تھوڑا۔ پھیکا۔ بے مزہ۔ قلیل۔ گھٹیا۔

تَالِدٌ: پرانا مال۔ پرانا ہونا۔ زمانہ قدیم سے ہونا۔ موروثی۔

تَامِرٌ: کھجوروں والا۔

تَانِيٌّ: کسان۔ کاشت کار۔ گاؤں کا رہنے والا۔ اِبْنُ السَّبِيْلِ اَحَقُّ بِالْمَاءِ مِنَ التَّانِيِّ۔ مقامی کے مقابلے میں مسافر کو (کنویں) سے پانی لینے کا زیادہ حق ہے۔

تَبِيْقٌ: شرکی طرف جلدی کرنا۔ اَنْتَ تَبِيْقُ۔ تو غصے سے بھرا ہوا ہے۔

تَبْمٌ: جزواں بچہ۔ مشابہ چیز۔ جَمْعُ تَوَائِمٍ وَتَوَاءِ اُمٍّ۔ تَوَاءِ اُمٍّ النُّجُوْمُ وَاللَّالِيُّ۔ ستارے اور موتی جو باہم ملے ہوئے ہوں۔

تَبِيْمٌ: جزواں بچہ۔ مشابہ چیزیں۔ جَمْعُ تَوَاءِ اُمٍّ وَتَوَاءِ اُمٍّ۔

تَبَانٌ: لنگوٹ۔ جاگتیا۔ نیکر۔ جَمْعُ تَبَائِيْنٍ۔ صَلَّى رَجُلٌ فِي تَبَانٍ وَقَمِيصٍ۔ ایک شخص نے انگلیاں اور کرتے میں نماز پڑھی۔

تَّبِعَ: شاہانِ یمن کا قدیم لقب۔ جمع تَبَائِعَة۔

تَّبِعَ: سایہ۔ شہد کی بڑی مکھی۔ جمع تَبَائِع و تَبَائِع۔

تَتَّبِعُ: تلاش کرنا۔ پیچھے لگنا۔ ٹوہ میں لگنا۔ تَتَّبِعُ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ۔ لوگوں نے کھٹا کھٹ طلاق

دینا شروع کر دی۔ تَتَّبِعَ بِيْ۔ وہ مجھ پر پل پڑتا ہے۔ وہ مجھے بار بار ستاتا ہے۔ لَتَتَّبِعَنَّ

سَنَنْ مَنْ قَبْلَكُمْ۔ تم اگلے لوگوں کی چالوں پر چلو گے۔

تَتَّبِيرٌ: توڑنا۔ ہلاک ہونا۔

تَتَّحَتَّحَ: حرکت کرنا۔ ہلنا۔

تَتْرَى: پے درپے۔ لگا تار۔ متفرق۔ یکے بعد دیگرے۔ لَا بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ تَتْرَى۔

رمضان کی قضا متفرق کر کے رکھنے میں کوئی قباحت نہیں۔

تَتْرَبٌ: مٹی میں لت پت ہونا۔

تَتْرُحٌ: رنجیدہ ہونا۔

تَتْرُعٌ: جلدی کرنا۔ تیز ہونا۔

تَتْرِيْعٌ: بند کرنا۔

تَتْمِيْمٌ: پورا کرنا۔ لٹکانا۔ مداومت کرنا۔ گلے میں تعویذ ڈالنا۔

تَتْمِيْمَةٌ: چت کبرے (سیاہ و سفید) مہرے جوڑ کر گلے میں ڈالنا۔ تعویذ۔

تَتْوِبَةٌ: توبہ کرنا۔ گناہ سے باز آنا۔ گناہ پر شرمندہ ہونا۔

تَتْوُجٌ: تاج پہننا۔ سردار بننا۔

تَتْوِيْعٌ: تاج پوشی۔

تَتْيِيْسٌ: تابع دار کرنا۔ مسخر کرنا۔

تَتْيِعٌ: جلدی کرنا۔

تَتْيِيْمٌ: غلام بنادینا۔ تابع دار کر دینا۔

تَتَاءٌ: جمائی۔ التَّاءُ بٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالْعَطْسَةُ مِنَ اللّٰهِ۔ جمائی شیطان کی طرف سے ہے

اور چھینک اللہ کی طرف سے ہے۔

تَنَالُّ: متے نکل آنا۔

تَنْبِیْتُ: ثابت کرنا۔ جمانا۔ پختہ کرنا۔ درج کرنا۔

تَنْبِیْتُ: گھجور کا تیسرا حصہ پک جانا۔ شراب کو اتنا پکانا کہ تہائی حصہ جل جائے۔ تین خداؤں کا

قائل ہونا۔ (جیسے نصاریٰ کہتے ہیں، باپ، بیٹا، روح القدس)

تُجَاهُ: سامنے۔ مقابل لُوطَائِفَةُ نُجَاهُ الْعُدُوِّ۔ ایک جماعت دشمن کے سامنے رہے۔

تَجَسُّسٌ: جاری ہونا۔ پھوٹ نکلنا۔

تَجَرُّؤٌ: تجارت کرنا۔ سوداگری کرنا۔ خرید و فروخت کرنا۔

تَجْفَافٌ: گھوڑے کا اپنی لباس جو اس کو لڑائی میں زخمی ہونے سے بچائے۔

تَحْتُ: نیچے۔ جمع تَحُوْتُ۔

تَحْتَانِي: نیچے کا حصہ۔ زیریں۔

تَحْتَحَةُ: حرکت دینا۔

تُحْفَةٌ: ہدیہ۔ حصہ۔ عمدہ۔ قیمتی چیز۔ جمع تُحَفٌ۔ الطَّيْبُ تُحْفَةُ الصَّائِمِ۔ روزے دار کا تحفہ

خوش بو ہے۔

تَحِيَّةٌ: سلام۔ دعا۔ آداب۔ تسلیمات۔ حَيَّاكَ اللَّهُ۔ اللہ تجھے سلامت رکھے۔

تَحْتَاخٌ: ہکلا۔ تھلا۔

تَحْتَخُ: تھلانا۔ ہکلانا۔

تَحْتَحَةُ: ہکلا پن۔ تھلاہٹ۔

تَحْذٌ: لینا۔ پانا۔ حاصل کرنا۔

تَحْمَرٌ: زمین کی نشانی۔ حدفاصل۔

تَحْوَمٌ: زمین کی نشانی۔ حدفاصل۔

تُرَابٌ: مٹی۔ جمع اُتْرِبَةٌ۔ وَتُرْبَانٌ۔ فَجَعَلَ يَمْسَحُ التُّرَابَ عَنْ ظَهْرِهِ وَيَقُولُ قُمْ يَا أَبَا

تُرَابٍ۔ آپ حضرت علی کی پیٹھ سے مٹی پونچھ رہے تھے اور فرما رہے تھے اے ابو تراب

(مٹی والے) اٹھو۔ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ کاش میں مٹی ہوتا۔ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ

الا التُّرَابُ۔ آدمی کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے۔

تُرَابِيٌّ: مٹی جیسا۔

تُرَاثٌ: میراث۔ ترکہ۔

تُرَاثِيٌّ: موروثی۔ قدیم۔

تُرَاةٌ: جسم کا بھر جانا۔ موٹا ہونا۔ پُرگوشت ہونا۔

تُرَاؤُ: ناگہانی موت۔ اچانک آنے والی موت۔ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَكْتُمَ التُّرَاؤُ۔ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ ناگہانی موت کی کثرت نہ ہو جائے۔

تُرَاؤُ: ناگہانی موت۔ اچانک آنے والی موت۔

تُرَاَسَةٌ: ڈھال سازی۔

تُرَاَصَةٌ: مضبوط۔ پائیدار ہونا۔ درست ہونا۔ تیز ہونا۔ سیدھا ہونا۔

تُرُوبٌ: ہم عمر۔ برابر۔ مثل ہم پلہ۔ جمع اُتْرَابٌ۔

تُرُبَاءُ: مٹی۔ زمین۔

تُرِبًا: (س) مٹی لگ جانا۔ خاک آلود ہونا۔ محتاج ہونا۔ تَرِبَ الرَّيْحُ: ہوا کا خاک آلود ہونا۔

تُرِبْتَ يَدَاكَ إِذَا لَوَّاعِدَلُ فَمَنْ يَغْدَلُ۔ تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے اگر میں ہی انصاف نہ کروں گا تو کون انصاف کرے گا۔

تُرِبًا: مٹی ڈالنا۔ كَانُ يُتْرَبُ الْكِتَابُ۔ خط پر مٹی ڈالتے تھے۔

تُرِبَانُ: مدینے سے ۱۹ میل پر ایک سرسبز و شاداب مقام۔ غزوہ بدر کے لئے جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیام فرمایا تھا۔

تُرْبَةٌ: مٹی۔ زمین کی اصل۔ قبر۔ جمع تُرُوبٌ۔ تُرْبَةٌ أَرْضِنَا۔ ہماری زمین کی مٹی۔ خَلَقَ اللَّهُ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ۔ اللہ نے زمین کو بھٹنے کے دن بنایا۔

تُرْبَةٌ: مکے سے دودن کی مسافت پر ایک وادی جہاں بنو ہوازن آباد تھے۔ یہاں کھجور اور دوسرے پھل کثرت سے ہوتے تھے۔

تُرْبِيٌّ: قبروں کی حفاظت کرنے والا۔

تُرَّةٌ: نقص۔ الزام۔

تُرْحٌ: چھپ جانا۔ پوشیدہ ہونا۔

تَرَجًا: کسی کام کا دشوار ہونا۔ مشتبہ ہونا۔

تُرُجٌ: بڑالیموں۔

تَرَجْمَانٌ: وہ شخص جو ایک زبان کا مطلب دوسری زبان میں بیان کر کے سمجھائے۔ ترجمہ کرنے

والا۔ جمع تَرَاجِمَةٌ۔

تَرُجْمَةٌ: وضاحت کرنا۔ حالات بیان کرنا۔ سوانح لکھنا۔ کسی زبان میں ترجمہ کرنا۔

تَرُوحٌ: رنجیدہ ہونا۔ غم گین ہونا۔ بے فیض ہونا۔ فکر مند ہونا۔ صدمہ۔ غم۔ فَرُوحٌ کی ضد ہے۔ مَآئِنُ

فَرُوحَةٍ إِلَّا وَتَبَعَهَا

تَرُوحٌ: محتاجی۔ فقر۔ غربت۔ رنج۔ جمع اَنْرَاحٌ۔ تَرُوحَةٌ: ہر خوشی کے بعد ایک رنج لگا ہوا ہے۔

تَرُوحٌ: شگاف۔

تُرُوٌّ: جز۔ اصل۔ معمار کی ڈوری جسے باندھ کر وہ چٹائی کو سیدھا کرتا ہے۔ لَا قِيمَنَّكَ عَلَى التُّرُوِّ۔

میں تجھے سیدھے راستے پر ڈال دوں گا۔

تُرُوٌّ: جسم کا بھر جانا۔ موٹا ہونا۔ پُرْغُوشَتٌ ہونا۔

تُرَاوَعٌ: زبردست بہاؤ۔ سیلاب۔ دربان۔

تُرَاوَأٌ: بہت چھوڑنے والا۔ بہت ترک کرنے والا۔

تُرَّابٌ: مال دار ہونا۔ کسی شے پر مٹی ڈالنا۔

تُرُوَّةٌ: باطل۔ لغو۔ جھوٹ۔ غلط۔ جمع تَرُوهَاتٌ۔

تُرُوْسٌ: ڈھال سے بچاؤ کرنا۔ کسی کو ڈھال سے مسلح کرنا۔ ڈھال لگانا۔

تُرُوهَاتٌ: مصائب۔ لغویات۔ واحد تُرُوَّةٌ۔

تُرُوْرٌ: سوکھنا۔ سخت ہونا۔ گاڑھا ہونا۔ خشک ہونا۔

تُرُوْرِيٌّ: درزی۔ خیاط۔ (درزی کا معرب)

تُرُوْسٌ: برتن وغیرہ بھرنا۔

تُرُوْسٌ: ڈھال۔ جمع اَنْرَاسٌ و تِرَاسٌ و تِرُوْسٌ۔

تَرَعٌ: برائی میں جلدی کرنا۔ کم عقل ہونا۔ بھر جانا۔ جلدی سے غصے ہونا۔ فَأَخَذْتُ بِخَطَامِ

رَاحِلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا تَرَعَنِي۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کی اونٹنی کی ٹیکل تھام لی تو آپ نے مجھے منع نہیں فرمایا۔

تَرَعٌ: پھیرنا۔ موڑنا۔

تُرْعَةُ: دروازہ۔ زینے کی سیڑھی۔ اونچی جگہ پر لگا ہوا باغچہ۔ جمع تَرَعٌ۔ وَأَنْصَبِ الْعَيْمَةَ عَلَى

التُّرْعَةِ۔ اونچی جگہ پر خیمہ نصب کر۔ إِنَّ مَنبِيَّ عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تَرَاعِ الْحَنَّةِ۔ میرا منبر

جنت کے بلند باغوں میں سے ایک باغ پر ہے۔

تَرَفٌ: ہرا بھرا ہونا۔ خوش حال ہونا۔ آسودہ حال ہونا۔

تُرْفَةٌ: آرام و آسائش کی زندگی۔ نعمت۔ تحفہ۔ پانی پینے کا برتن جمع تُرُفٌ۔

تُرْفُوَةٌ: ہنسی کی ہڈی۔ جمع تَرَاتِقٌ۔ يَفْرُءُ وَنَ الْفُرَانَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاتِقِيهِمْ: وہ قرآن پڑھیں گے

لیکن وہ ان کی ہنسلپوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ بَلَّغَتِ الرُّوحُ التَّرَاقِيَّ۔ روح گلے میں

آگئی۔ جاں بہ لب ہو گیا۔

تَرَكٌ: چھوڑ دینا۔ دست بردار ہونا۔ نظر انداز کرنا۔

تَرَكَةٌ: وہ مال و اولاد جو آدمی چھوڑ کر مر جاتا ہے۔

تَرَكَةٌ: وہ مال و اسباب جو میت چھوڑ جائے۔ وراثت کا مال۔

تَرْمُدٌ: بنی اسد کے علاقے میں ایک مقام کا نام۔

تَرْمِذٌ: خراسان میں ایک مشہور شہر۔

تَرُوْرٌ: جسم کا بھر جانا۔ مونا ہونا۔ پُرگوشت ہونا۔

تَرُوْهَا: بے کار کاموں میں لگ جانا۔ لغویات میں پڑنا۔

تَرِيَاقٌ: زہر کو بے اثر کرنے والی دوا۔

تَرِيْبَةٌ: سینے کی اوپر کی ہڈی۔ سینے کا بالائی حصہ۔ جمع تَرَائِبٌ۔

تَرِيْحٌ: مضبوط اعصاب والا۔

تَرِيْصٌ: صحیح۔ درست۔ سیدھا۔ ترازو کا ٹھیک ہونا۔ لَوُوزِنَ رَجَاءَ الْمُؤْمِنِ وَخَوْفَهُ بِمِيزَانٍ

تَرِيْصٍ مَا زَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرَ۔ اگر مسلمان کی امید اور اس کا خوف دونوں ایک

سیدھی ترازو سے تولے جائیں تو دونوں پلڑے برابر ہیں گے۔

التَّرِيْكُ: وہ خوشہ جس سے پھل توڑ لیا گیا ہو۔

تَرْيُكَةً: شتر مرغ کے اٹدے۔

تَسْحَنُ: موزہ۔ جراب۔ اَمْرُهُمْ اَنْ يَّمْسَحُوْا عَلٰى النَّسَاخِيْنَ۔ آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ موزوں پر مسح کر لیں۔

تَسْعُ: نو۔ مذکر کے لئے۔ اَمْرُنِيْ رَبِّيْ يَتَسَعُ۔ میرے رب نے مجھے نو باتوں کا حکم دیا۔

تَسْعَةٌ: نو۔ مونث کے لئے۔ اِنَّ لِلّٰهِ تَسْعَةً وَتَسْعِيْنَ اِسْمًا۔ اللہ کے ۹۹ نام ہیں۔

تَسْنِيْمٌ: جنت کا ایک چشمہ جو بلندی سے گرتا ہے۔ چڑھ آنا۔

تَعَبٌ (س): تھک جانا۔ محنت کرنا۔ مشقت میں پڑنا۔ اکتا جانا۔ تھکان۔

تَعْتَعٌ: بھکانا۔ زور سے بلانا۔ جھنجھوڑنا۔ پریشان کرنا۔ الَّذِيْ يَفْرُءُ الْقُرْآنَ وَيَتَعْتَعُ، لَهُ

اَجْرَانِ۔ جو شخص قرآن کو مشقت اٹھا کر پڑھے اس کو دو ہر اثواب ملے گا۔

تَعْرٌ: چیخا۔ چلانا۔ چونک کر اٹھنا۔ مَنْ تَعَارَ مِنَ اللَّيْلِ۔ جو شخص رات کو چونک اٹھے۔

تَعَسًا: ہلاک ہونا۔ گر پڑنا۔ پھسل جانا۔

تَعْضُوضٌ: کالی کھجور جو بہت میٹھی ہوتی ہے۔ اَتُسْمُوْنَ هٰذَا التَّعْضُوضُ۔ کیا تم اس کو تعضوض

کہتے ہو۔

تِعْهَنٌ: مکے اور مدینے کے درمیان ایک مقام کا نام۔ كَانَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتِعْهَنُ وَهُوَ

قَائِلٌ بِالسُّفْيَا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تعھن میں تھے اور دوپہر کو سقیام میں آرام

کرنے والے تھے۔

تَعَبٌ: بگڑ جانا۔ خراب ہو جانا۔ عَبَّ الشَّيْءُ۔ یہ چیز خراب ہو گئی۔

تَعْبَةٌ: بگڑ جانا۔ خراب ہو جانا۔

تَعْرٌ: پھٹنا۔ شق ہونا۔ تَعْرَتِ الْقَرْيَةُ۔ مشکیزے کا پھٹنا۔ تَعْرَ الْجُرْحُ۔ زخم سے خون بہنا۔

تَعْرَةٌ: ڈرنا۔

تُفٌ: تھو تھو۔ گندی اور ناگوار چیز پر بولا جاتا ہے۔ ناخنوں کا میل۔ جَمْعُ تَفْفَةٍ۔

تَفَاءٌ: گرم ہونا۔ غصے ہونا۔

تَفَتْ: میل کچیل۔ پریشانی دور کرنا۔ ثُمَّ الْيَقْضُوْا تَفْتَهُمْ۔ پھر وہ اپنی پریشان حالی دور کریں۔

تَفَاحٌ: سیب۔ جَمْعُ تَفَاحٍ۔

تَفُلُّ: تھو تھو کرنا۔ تھو کرنا۔

تَفُوهُ: کم ہونا۔ خسیس ہونا۔ احمق ہونا۔ بے مزہ ہونا۔

تَفَهُ: کم ہونا۔ خسیس ہونا۔ احمق ہونا۔ بے مزہ ہونا۔ کم عقل ہونا۔

تَفِيئَةٌ: زمانہ۔ وقت۔ دَخَلَ عَمْرٌ وَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى تَفِيئَةِ ذَلِكَ۔ حضرت عمر اندر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کیں پھر ابو بکر بھی اسی وقت داخل ہوئے۔

تَفِيئَةٌ: زمانہ۔ وقت۔

تُقَاةٌ: پرہیز گاری۔ بچاؤ۔ ذُرٌّ كُنَّا إِذَا أَحْمَرَّ الْبَاسُ اتَّقَيْنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ جب لڑائی سخت خون ریز ہوتی تو ہم آپ کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتے۔ الْإِمَامُ جُنَّةٌ يَنْقِي بِهِ وَيُقَاتِلُ مِنْ وَرَائِهِ۔ امام ڈھال (کی مانند) ہے لوگ اس سے اپنا بچاؤ کرتے ہیں اور اس کے پیچھے رہ کر جنگ کرتے ہیں۔

تُقَدَّةٌ: زیرہ۔ دھنیا۔ مسالا۔

تُقَدَّةٌ: زیرہ۔ دھنیا۔ مسالا۔

تُقَعُ: بھوک۔ بھوکا ہونا۔

تُقَى: غلے کا بیج ہونا۔

تُقَنُّ: طبیعت۔ معاش کا سامان۔ حاذق۔ ہوشیار۔

تُقَى: پرہیز گار۔

تُقِيَّةٌ: عزت یا جان جانے کے ڈر سے اپنا عقیدہ چھپانا۔

تُكَاءٌ: بہت تکیہ لگانے والا۔ لَا أَكُلُ مُتَّكِنًا۔ میں تکیہ لگا کر نہیں کھاتا۔ التُّكَاةُ مِنَ النِّعْمَةِ۔ بچھونا بھی اللہ کی نعمت ہے۔

تِلَاوَةٌ: پڑھنا۔

تَلْبِيبٌ: کپڑے کو سینے پر اکٹھا کر کے بھینچنا۔ جیسے لڑائی جھگڑے میں ہوتا ہے۔

تَلْتَلُ: سخت ہو جانا۔ کسی شے کو زور سے ہلانا۔ جھنجھوڑنا۔

تَلْتَلَةٌ: سختی۔ جلد بازی۔ جانور کو سختی سے ہانکنا۔

تَلْتَلَةٌ: وہ کلام جو سمجھ میں نہ آئے۔ تَلْتَانَا۔ جمع تَلَاتِيلٌ۔

تَلْدٌ: پرانا مال۔ پرانا ہونا۔ زمانہ قدیم سے ہونا۔ موروٹی۔

تَلْدٌ: پرانا مال۔ پرانا ہونا۔ زمانہ قدیم سے ہونا۔ موروٹی۔

تَلْدٌ: پرانا مال۔ پرانا ہونا۔ زمانہ قدیم سے ہونا۔ موروٹی۔

تَلْعَابَةٌ: بہت ٹھٹھا کرنے والا۔

تَلْعَةٌ: اوپر سے نیچے کو پانی بہنے کی جگہ۔ وادی کا کشادہ دہانہ۔

تَلْكٌ: وہ اسم اشارہ واحد مونث بعید کے لئے۔ ذُكِّكَ كَمَا مَوْنَتْ هِيَ۔

تَلٌّ: ٹیلہ۔ اوندھا گرانا۔ منہ کے بل لٹانا۔ اُوْتِيْتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْاَرْضِ فَتَلَّتْ فِي يَدِي۔

زمین کے خزانوں کے کنجیاں میرے پاس لائی گئیں اور میرے ہاتھ میں ڈال دی گئیں۔

تَلٌّ: باریک کپڑا جس کے اندر سے بدن نظر آئے۔

تَلْيٌ: ذبح کی ہوئی بکری۔

تَلْوٌ: پیچھے جانا۔ پیروی کرنا۔ چھوڑ دینا۔

تَلْوُدٌ: مقیم ہونا۔ قیام پذیر ہونا۔

تَلِيلٌ: گردن۔

تُمَارِيٌّ: ایک قسم کا درخت۔

تَمَامٌ: تمام ہونا۔ پورا ہونا۔ قصد کرنا۔ لَيْلَةُ التَّمَامِ۔ چودھویں رات جس میں چاند پورا ہوتا ہے۔

تَمَامَةٌ: تمام ہونا۔ پورا ہونا۔ قصد کرنا۔

تَمْتَامٌ: صاف بات نہ کرنے والا۔ تَلْتَلَانِي وَاللَّهِ۔

تَمْتَمَةٌ: ایسی بات کرنا جو سمجھ میں نہ آئے۔ بات کرنے میں تا اور میم کی سی آواز نکالنا۔ صاف نہ

بولنا۔ تَلْتَلَانَا۔

تَمْتَالٌ: مورت۔ تصویر۔ نقش و نگار۔ مجسمہ۔ جمع تَمَاتِيلٌ۔ يَجِيءُ مَعَهُ تَمْتَالُ الْجَنَّةِ۔ دجال

آئے گا اس کے ساتھ جنت کی تصویر ہوگی۔ اِنَّا لَا نَدْخُلُ الْكِنَانِيسَ مِنْ اَجَلِ

التَّمَاتِيلِ۔ ہم مورتوں کی وجہ سے گرجوں میں داخل نہیں ہوتے۔

تَمْرٌ: خشک کھجور۔ جمع تَمْرَاتٌ۔ نَبِيْتُ لَا تَمْرَ فِيْهِ جِيَاعٌ اَهْلُهُ۔ جس گھر میں کھجور نہیں اس گھر

والے بھوکے ہیں۔

تَمْرَاحَةٌ: خوش۔ مگن۔ پھولا ہوا۔ مزاح کرنے والا۔

تَمْرُ الْهِنْدِيِّ: اہلی۔

تَمْرٌ: تمام ہونا۔ پورا ہونا۔ قصد کرنا۔ ایک کام کو کرتے رہنا۔

تَمَارٌ: کھجور فروش۔

تَمَيَّنَ: ایک مقام کا نام یعنی ہرُوشی کی گھاٹی جو چھہ کے قریب ہے۔

تَمِيمٌ: نجد کا ایک قبیلہ۔

تَنَادَرٌ: عجیب و غریب باتیں۔ بنانا تلاش کرنا۔ تَنَادَرَ عَلَى فُلَانٍ۔ کسی کا مذاق اڑانا۔ تَنَادَرَ

الْحَيَوَانُ الرُّطْبَ۔ جانور کا ترگھاس تلاش کرنا۔

تَنَارٌ: تور بنانے والا۔

تِنَاوَةٌ: درس و تدریس چھوڑ دینا۔ کھیتی باڑی کرنا۔

تِنْبَالٌ: چھوٹا۔ ست۔ چھوٹے قد والا۔

تَنْبَلٌ: چھوٹا۔ ست۔ پست قامت۔ جمع تَنَابِيلُ وَ تَنَابِلَةٌ

تَنْبُولٌ: چھوٹا۔ ست۔ چھوٹے قد والا۔

تِنْتَالٌ: چھوٹا۔ چھوٹے قد والا۔ جمع تَنَاتِيْلُ۔

تِنْتِيْلٌ: چھوٹا۔ چھوٹے قد والا۔

تَنْجَرَةٌ: ہانڈی۔ دیگ۔

تَنْجِيلٌ: تعظیم کرنا۔ عزت کرنا۔

تَنَخًا: بدبھمی ہو جانا۔

تَنٌّ: ہم عمر، برابر، مثل۔ ہم پلہ جمع۔ اَتْنَاَنَّ۔ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنِيْنٌ

وَتَبْرَبِيْ۔ (عمار کہتے ہیں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہم عمر اور ہم سن ہیں۔

تَنُوْرٌ: تور۔ روٹی پکانے کی بھٹی۔ جمع تَنَائِيْرُ۔

تَنُوْمَةٌ: ایک پھل وارد رخت۔ کلونجی کا پودا۔

تَيْنِيْنٌ: بڑی چھلی۔ اِثْرَدَهَا۔ اِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ عَلٰى الْكٰفِرِ فِيْ قَبْرِهٖ تَسْعَةً وَ تَسْعِيْنَ تَيْنِيْنًا۔ اللّٰهُ

تعالیٰ کا فر پر اس کی قبر میں ننانوے اڑدھے مسلط کرے گا۔

تَنُوْءٌ: قیام کرنا۔ ٹھہرنا۔ رہنا۔

تَنُوْحٌ: قیام کرنا۔ ٹھہرنا۔ جم جانا۔ اِنَّهٗ اَمِنَ وَمَنْ مَّعَهُ مِنْ يَهُودٍ فَتَنَحَّوْا عَلٰى الْاِسْلَامِ۔ عبداللہ

بن سلام اور ان کے ساتھ والے یہودی ایمان لائے اور اسلام پر ثابت قدم رہے۔

تَنُوْفَةٌ: اجازت زمین۔ غیر آباد زمین۔ دور دراز۔ جنگل بیابان۔ جمع تَنَافٌ۔ سَافَرُ رَجُلٌ بِاَرْضِ

تَنُوْفَةٍ۔ ایک آدمی نے دور دراز زمین میں سفر کیا۔

تَوَابِلٌ: گرم مسالا۔

تَوَارِثٌ: ایک دوسرے کا وارث ہونا۔

تَوَاءٌ: جڑواں بچے۔ مشابہ چیزیں۔ جمع تَوَائِمٌ وَ تَوَاءٌ اُمٌّ۔

تَوْبٌ: گناہ سے باز آنا۔ توبہ کرنا۔ گناہ پر شرمندہ ہونا۔

تَوْبَةٌ: توبہ کرنا۔ گناہ سے باز آنا۔ گناہ پر شرمندہ ہونا۔ النَّدْمُ تَوْبَةٌ۔ گناہ پر شرمندہ ہونا ہی توبہ ہے۔

تَوْبَلٌ: مسالا۔ جمع تَوَابِلٌ۔

تَوُوْحٌ: تاج پہننا۔

تَوْرٌ: چھوٹا پیالہ۔ پیتل کا لوٹا۔ اَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِى تَوْرٍ۔ میں ایک چھوٹے پیالے میں آپ کے پاس

پانی لے کر آیا۔

تَوُوْسٌ: طبیعت۔ فطرت۔ مزاج۔

تَوُوْقٌ: شوق۔ خواہش۔ میلان خاطر۔ جمع اَتَوَاقٌ۔

تَوُوْلًا: جادو کا علاج کرنا۔ جادو کرنا۔

تَوُوْلَةٌ: جادو۔ ٹوٹ کا۔ محبت کا تعویذ جو بیوی اپنے خاوند کے لئے کراتی ہے۔

تَوُوْلَةٌ: زبردست مضیبت۔ غم۔

تَوُوْمٌ: لہسن۔ اس کی اصل تَوُوْمٌ ہے۔

تَوُوْمَةٌ: بالی جس میں بڑا دانہ پڑا ہوا ہو۔ موتی۔ شتر مرغ کا انڈا۔ جمع تَوُوْمٌ۔

تَوُوٌّ: اکیلا۔ طاق۔ واحد۔

تَوَابٌ: بہت معاف کرنے والا۔ (اللہ) توبہ کی توفیق دینے والا۔ توبہ قبول کرنے والا۔

تَوَابٌ: بہت توبہ کرنے والا (بندہ)

تَوُجٌ: تاج پہنانا۔ سردار بنانا۔

تَوَى: ہلاکت۔ تباہی۔ بربادی۔ تَوَى الْمَالُ: مال تباہ ہو گیا۔ لَا تَوَى عَلَيَّ: اسے کوئی نقصان نہیں۔

تَهَامَةٌ: مکہ اور حجاز کی شمالی بستیاں۔ وہ نشیبی علاقہ جو ساحل سمندر اور حجاز و یمن کے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔

تَهْمٌ: بدل جانا۔ بگڑ جانا۔ حیران ہونا۔ ہوا کارک جانا۔ خراب ہونا۔

تَهْنٌ: سونا۔ پریشان ہونا۔ آلا إِنَّ الْعَبْدَ تَهْنٌ۔ آگاہ ہو جاؤ! بندہ سو گیا تھا۔

تَهْوٌ: غافل ہونا۔

تَهْوَاءٌ: ایک حصہ۔ ایک ٹکڑا۔

تَهْجًا: تیار ہونا۔ تقدیر میں ہونا۔ جھکنا۔

تَيْخٌ: لکڑی سے مارنا۔

تَيْدٌ: نرمی۔ ملاہمت۔ آہستگی۔ تَيْدَكَ زَيْدًا۔ زید پر نرمی کر۔

تَيْرَانٌ: جوش مارنا۔ بڑی بڑی موجیں اٹھانا۔ تَارَ تَيْرَانًا۔ دریا میں لہریں اٹھیں۔

تَيْرٌ: غلبہ پانا۔ مغلوب کر دینا۔

تَيْرَانٌ: مرجان۔ سخت ہونا۔ موٹا اور کھر درا ہونا۔

تَيْسٌ: بکری یا ہرن کا ایک سالہ بچہ۔ بکرا۔ بے عقل آدمی۔ جمع تَيْسُونَ

تَيْعٌ: نکلنا۔ بہنا۔ توڑنا۔ طے کرنا۔ مشتاق ہونا۔ جلدی کرنا۔ پانی کا زمین پر پھیل جانا۔

تَيْعٌ: نکلنا۔ بہنا۔ توڑنا۔ طے کرنا۔ مشتاق ہونا۔ جلدی کرنا۔ پانی کا زمین پر پھیل جانا۔

تَيْعَانٌ: نکلنا۔ بہنا۔ توڑنا۔ طے کرنا۔ مشتاق ہونا۔ جلدی کرنا۔ پانی کا زمین پر پھیل جانا۔

تَيْفَاقٌ: برابر۔ مقابل۔ آسنے سانسے۔ هُوَيْبَتْ فِي السَّمَاءِ تَيْفَاقَ الْكَعْبَةِ۔ وہ خانہ کعبہ کے

مقابل آسمان پر ایک گھر ہے یعنی بیت المعمور۔

تَيْكٌ: گٹھڑی۔

تَيْمٌ: غلام بنا دینا۔ تابع دار کر دینا۔

تِيْمَاءُ: جنگل بیابان۔ بخر اور مہلک زمین۔ شام میں ایک بستی۔

تَيْنٌ: انجیر۔

تَيْهٌ: چٹیل میدان جہاں پانی نہ ہو اور نہ رہ نمائی کا کوئی نشان ہو۔ غرور۔ تکبر۔ اکڑ۔

تَيْهًا: مفرور ہونا۔ تکبر کرنا۔ حیران پریشان ہونا۔ راہ گم کرنا۔ بھٹکنا۔

تَيْهًا: مفرور ہونا۔ تکبر کرنا۔ حیران پریشان ہونا۔ راہ گم کرنا۔ بھٹکنا۔

تَيْهَانًا: مفرور ہونا۔ تکبر کرنا۔ حیران پریشان ہونا۔ راہ گم کرنا۔ بھٹکنا۔

تَيْهَوْرٌ: نرم ہم وار زمین۔ نالے کے بالا حصے کی زمین۔ پہاڑ کے درمیان کی زمین۔ مفرور آدمی۔

متکبر آدمی۔

تِيَّاحٌ: تیز دوڑنے والا گھوڑا۔

تِيَّارٌ: سمندر کی لہر۔ سمندر کی موج۔ ثُمَّ اَقْبَلَ مُزِيْدًا كَالْتِيَّارِ۔ پھر سمندر کی موج کی طرح جھاک

اٹھا ہوا آیا۔

تِيَّارٌ: پستہ قد۔ غلیظ۔ سخت۔

تِيَّاسٌ: بکروں والا۔ بکریوں والا۔

تِيَّانٌ: انجیر فروش۔

تِيَّةٌ: گم راہ کرنا۔ پریشان کرنا۔

باب الثاء

ثَائِبٌ: سخت آندھی جو بارش سے پہلے ہوتی ہے۔ سمندر کا وہ پانی جو جزر کے بعد بڑھے۔

الثَّائِبُ: وہ شخص جو خون کا بدلہ لئے بغیر نہ رہ سکے۔ انتقام لینے والا۔ خون کا پیاسا۔

ثَائِرٌ: مشتعل۔ جو شیلہ۔ بھڑکا ہوا۔ باغی۔ انقلابی۔ جمع ثَوَارٌ۔

ثَاغِيَّةٌ: بکری۔ مَالَهُ ثَاغِيَّةٌ وَلَا رَاغِيَّةٌ۔ نہ اس کے پاس بکری ہے اور نہ اونٹنی یعنی وہ مفلس ہے۔

ثَاقِبٌ: روشن۔ چمک دار۔ تھوڑا بچھا ہوا۔

ثَاقِبٌ: بوجھل۔ بھاری۔ بیماری کا ستا ہوا۔ پورے وزن کا سکہ۔ جمع ثَوَاقِبٌ۔

ثَأْفُلٌ: ثقیل کھانا کھانا۔

ثَائِكَةٌ: وہ عورت جس کا بچہ وفات پا گیا ہو۔

ثَالِبٌ: عیب جو۔ غیبت کرنے والا۔ ملامت کرنے والا۔

ثَالُوثٌ: تین میں کا ایک ہونا۔

ثَامِنٌ: آشواں شخص۔

ثَانَوِيٌّ: دوسرے نمبر کا۔ دوسرے درجے کا۔

ثَانِيًا: دوسرے نمبر پر۔ اس کے ساتھ ساتھ۔ دوسرے یہ کہ، دوسری دفعہ۔

ثَاهَةٌ: مسوڑھا۔

ثَنَاجٌ: شیر۔

ثَوَاطٌ: زکام۔

ثَابٌ: جمائی لینا۔ ست ہونا۔

ثُنْبٌ: جمائی لینا۔ ست ہونا۔

ثُوبَاءٌ: جمائی۔ سستی۔

ثُوبَاءٌ: ڈھیلا پن۔ بھاری پن۔ (سستی کی وجہ سے)

ثَائِنًا: پیسا ہونا۔ غصے کا ٹھنڈا ہونا۔ تھم جانا۔ سیراب کرنا۔ پیسا رکھنا۔ روک دینا۔

ثَأَجٌ: بکری کی آواز۔ لَا يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَعَلَى رَقَبَتِكَ شَاةٌ لَهَا ثُوءٌ آجٌ: قیامت کے دن

اس طرح آنا کہ گردن پر بکری لدی ہو اور وہ چیخ رہی ہو۔

ثَأَدٌ: تر ہونا۔ سرسبز و شاداب ہونا۔ رات کا ٹھنڈا ہونا۔ ٹھنڈک۔ اوس۔ شبنم۔ ران کا گوشت سے بھر

جانا۔

ثَأْدَاءٌ: بے عقل لوٹڈی۔

ثَأْرٌ: خون کا بدلہ لینا۔ انتقام لینا۔ وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلٰی مَنْ ظَلَمْنَا۔ اور ایسا کر کہ ہم اس سے بدلہ

لیں جس نے ہم پر ظلم کیا۔ بِكُمْ يَذْرُكُ اللَّهُ ثَأْرَةَ كُلِّ مُؤْمِنٍ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے

ہر مومن کے خون کا بدلہ لے گا۔

الثَّأْرُ: خون کا بدلہ۔ انتقام۔ جرم کا بدلہ۔ جمع آثار۔

النَّارِيُّ: انتقامی۔

نَاطٌ: بد بودار ہونا۔ گوشت کا خراب ہو جانا۔ زکام ہو جانا۔

نَاطَاءٌ: احمق عورت۔ لونڈی۔

نَاطَةٌ: کالی کالی کچڑ۔ بد بودار کچڑ۔ نَاطٌ حَرَمٌ: کالی بد بودار کچڑ۔ نَاطَةٌ مُدَّتْ بِمَاءٍ۔ ایک تو

کالی کچڑ اوپر سے پانی یعنی کرپلا اور نیم چڑھا۔

نُؤْلٌ: مہ۔ چنے کے برابر ٹھوس پھنسی۔ پستان کا سرا۔ جمع نَائِلٌ

نُؤْبٌ: لونٹا۔ جمع ہونا۔ کپڑا (ہر قسم کا) بھر جانا۔ حوض میں پانی جمع ہو جانا۔ لباس۔

نُؤْرٌ: جوش میں آنا۔ جوش مارنا۔ اڑنا۔ کودنا۔ حملہ کرنا۔

نَائِيٌّ: بگاڑ۔ فساد۔ خرابی۔ کم زوری۔ سوراخ۔ زخم کا نشان۔ وَرَابٌ النَّائِيٌّ۔ اور حضرت ابو بکر

صدیق نے فساد کی اصلاح کی۔

نَبَاتٌ: ٹھہرنا۔ جمننا۔ ثابت قدم رہنا۔ قائم رہنا۔ قید کرنا، روکنا۔ ذَاءٌ نُبَاتٌ۔ وہ بیماری جو بٹنے نہ

دے۔ وَإِذْ يُمَكِّرُ بَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ۔ اور جب کافر آپ کے بارے میں

سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں۔

نَبَاتَةٌ: باوقار ہونا۔ مستقل مزاج ہونا۔ بہادر۔ يَمِيٌّ لِلَّهِ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ اللّٰهَ جُوچا ہوتا ہے مٹاتا ہے

اور جو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔

نَبٌّ: اطمینان سے بیٹھنا۔ جم کر بیٹھنا۔ پورا ہو جانا۔

نَبْتٌ: حجت۔ دلیل۔ ثبوت۔ وَكَانَ ذَا نَبْتٍ۔ وہ مضبوطی والا تھا۔

نَبْتٌ: بہادر۔ مضبوط دل والا سوار۔

نُبَّةٌ: جماعت۔ گروہ۔

نُبَّةٌ: سچا۔ معتبر۔ ثقہ۔ جمع نُبَاتٌ۔

نُبْحٌ: درمیانی۔ سچ کی۔ صدر مقام۔

نُبْحٌ: چھپا لینا۔ صاف نہ لکھنا۔ صاف نہ بولنا۔

نُبْحٌ: پاؤں کی انگلیوں کے سروں پر بیٹھنا۔

نُبْحٌ: ہر چیز کا ابھرا ہوا حصہ۔ درمیانی حصہ۔ بڑا حصہ۔ يَرْكَبُونَ نُبْحًا هَذَا الْبَحْرِ۔ وہ اس سمندر

کے بیچوں بیچ یا بڑے گہرے مقام میں سوار ہو رہے ہیں۔

تُبَجَّارٌ: وہ گڑھا جو پرنا لے کا پانی گرنے سے پڑ جاتا ہے۔
تُبَجَّةٌ: متوسط شخص۔

تُبْرٌ: سمندر کا اتر جانا۔ روکنا۔ نا امید کرنا۔ ہنکانا۔ کشادہ ہونا۔ تَبْرَتِ الْبِشْرَةُ۔ پھنسی پھوٹ گئی۔
تَبَطٌ: روک دینا، دیر کرنا، سوچ جانا، ٹھہرا دینا، ان هَمَمْتُ بِصَالِحِ تَبَطْنِي۔ اگر میں اچھی بات کا ارادہ کرتا ہوں تو وہ مجھے روک دیتا ہے۔

تَبْنٌ: کپڑے کا کنارہ موڑنا یا سینا، کپڑے کے پلے میں بھرنا۔ دامن۔ کپڑے کا مڑا ہوا حصہ جس میں کوئی چیز رکھی جائے۔ جَمْعُ تَبْنٍ. إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِحَائِطٍ فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ وَلَا يَتَّخِذْ تَبَانًا. تم میں سے جب کوئی کسی پھل والے باغ میں سے گزرے تو اس میں سے کھائے اور تھیلانہ بنائے یعنی جمع کر کے نہ لے جائے۔

تُبُوْتُ: ٹھہرنا۔ جمننا۔ ثابت قدم رہنا۔ قائم رہنا۔ ذَاءُ تُبَاتٍ۔ وہ بیماری جو ہلنے نہ دے۔
تُبُوْرٌ: ہلاکت۔ اَعُوذُ مِنْ دَعْوَةِ التُّبُوْرِ۔ میں ہلاکت کی دعوت سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔
اَتَدْرِي مَا تَبْرَ النَّاسِ۔ کیا تو جانتا ہے کہ کس چیز نے لوگوں کو اللہ کی اطاعت سے روکا۔
تَبِيْرٌ: مکے کے بڑے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کا نام جہاں قریش کے لوگ عبدالمطلب کو لے جا کر بارانِ رحمت کی دعا کرتے تھے۔ تَمْرٌ اَفْضَلُ حَيْثُ يُشْرِفُ لَكَ تَبِيْرٌ۔ پھر اس وقت لوٹ جب شبیر دھوپ سے چمک جائے۔

تُبْجٌ: بہنا۔ بہانا۔ گرنا۔

تُبْحَةٌ: وہ باغ جس میں پانی کے حوض ہوں۔

تُبْحَرٌ: سوکھی کھجور کو کچی کھجور کی کھلی کے ساتھ ملانا۔ بہانا۔

تُبْحَرَةٌ: سینے کے بیچوں بیچ۔ میدان کے بیچوں بیچ۔

تُبْحَلَةٌ: پیٹ کی بڑائی۔ بھاری بھر کم ہونا۔ بڑے پیٹ والا ہونا۔

تُبْجُوْجٌ: خوب برسنے والا۔ خوب بہنے والا۔ وَانزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً تَبْحَاجًا۔

تُبْحِيْجٌ: سیلاب۔ بہاؤ۔ رو۔ سیل۔ اِكْنَطُ الْوَادِي بِتُبْحِيْجِهِ۔ وادی سیلاب کے پانی سے بھر گئی۔

تُبْحَانَةٌ: موٹا ہونا۔ دیز ہونا۔ سخت ہونا۔ بے بس ہونا۔

تُخِنُّ: موٹا ہونا۔ سخت ہونا۔ بے بس ہونا۔ دبیز ہونا۔ وَكَانَ قَدْ أُخِنَ (ابو جہل زخموں سے چور ہو کر) بالکل بے طاقت ہو گیا تھا۔

تُخُونَةٌ: موٹا ہونا۔ دبیز ہونا۔ سخت ہونا۔ بے بس ہونا۔

تُخِينٌ: موٹا۔ بھاری۔ گاڑھا۔ سخت۔

تُدَاءٌ: ایک گھاس جو موسم گرما میں سوکھ جاتی ہے اور سردیوں میں سرسبز ہو جاتی ہے۔

تُدْعُ: پھوڑنا۔ کچلنا۔

تُدْقُ: کوشش کرنا۔ بہنا۔ تَدَقَّ الوَادِي۔ وادی پانی سے بھر گئی۔

تَدْنٌ: بدبودار ہونا۔ موٹا ہونا۔

تُدْيُ: پستان۔ چھاتی۔ جمع تُدْيٌ۔

تُدْيُ: پستان۔ چھاتی۔

تُدْيُ: پستان۔ چھاتی۔

تُرَاءٌ: مال کا بڑھ جانا۔ تعداد زیادہ ہو جانا۔ مال دار ہونا۔

تُرَارَةٌ: زیادہ ہونا۔ کثیر ہونا۔ پراگندہ کرنا۔ کشادہ۔ بیارگو۔ باتونی۔

تُرُبٌ: ملامت کرنا۔ ڈانٹنا۔ جھڑکنا۔

تُرْفَارٌ: جھکی۔ باتونی۔ فضول بولنے والا۔

تُرْفَرَةٌ: بکواس۔ باتیں بنانے کا مرض۔ بے فائدہ کلام۔

تُرْدَا: روٹی چور کر شور بے میں بھگونا۔ توڑنا۔ ڈیونا۔ ہلکی بارش۔

تُرٌّ: زیادہ ہونا۔ کثیر ہونا۔ پراگندہ کرنا۔ کشادہ۔ بیارگو۔ باتونی۔ تَرَّرَ الْمَكَانَ تَشْرِيرًا۔ اس

نے گھر کو تر کیا۔

تُرَارَةٌ: بہت پانی والا۔ بہت دودھ والا۔ عَيْنٌ تُرَارَةٌ خُوب پانی بہانے والا چشمہ۔

تُرْمٌ: دانت ٹوٹنا۔ دانت کا جڑ سے نکل جانا۔

تُرْوَى: مال دار عورت۔

تُرْوَانٌ: مال دار مرد۔

تُرْوَةٌ: مال کی کثرت۔ شمار کی کثرت۔ دولت۔ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا بَعْدَ لُوطٍ إِلَّا فِي تُرْوَةٍ مِّنْ

قَوْمُهُ - حضرت لوط کے بعد اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے سب کثیر قوم والے تھے۔

قُرُورٌ: زیادہ ہونا۔ کثیر ہونا۔ پراگندہ کرنا۔ کشادہ۔ سیارگو۔ باتونی۔

قُرُورَةٌ: زیادہ ہونا۔ کثیر ہونا۔ پراگندہ کرنا۔ کشادہ۔ سیارگو۔ باتونی۔

قُرَى: متمول ہونا۔ مال دار ہونا۔ قُرَى الْمَطَرِ التُّرَابِ - بارش کا مٹی کو تر کرنا۔

قُرَيْدٌ: روٹی کو شوربے میں چور کر بنایا ہوا کھانا۔ فَضْلٌ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ

عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ - عورتوں پر حضرت عائشہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے دوسرے کھانوں پر

ثرید کی فضیلت۔ كُلُّ مَا أَفْرَى الْأَوْذَاجَ غَيْرَ مُشْرِدٍ - وہ جانور کھاؤ جس کے گلے کی

رگیں کٹ جائیں نہ کروہ جو رگیں کٹے بغیر مر جائے۔

قُرَيْرٌ: حجاز میں ایک مقام کا نام۔

قُرَى: کثیر۔ سیار۔ بہت۔

قُطٌّ: ہلکی ڈاڑھی والا۔ چھدری ڈاڑھی والا۔

قُطًّا: احمق ہونا۔

قُعْبٌ: بہنا۔ بہانا۔ حوض۔ وَجْرُحُهُ يَنْعَبُ دَمًا - اور اس کے زخم سے خون بہتا ہوگا۔ سَأَلَتْ

مَنْعَابَ الْمَاءِ - پانی پینے کی جگہوں سے پانی بہ نکلا۔

قُعْنَعٌ: مسلسل تے کرنا۔ پے در پے تے کرنا۔

قُعْجَرَةٌ: بہانا۔

قُعْدٌ: تر کھجور۔ گدر کھجور جس کا زیادہ تر حصہ پک گیا ہو۔ بالائی۔ ملائی۔ کریم۔ تازہ سبزی۔ مَالُهُ

قُعْدٌ وَلَا مَعْدٌ: اس کا مال نہ تھوڑا ہے اور نہ زیادہ۔

قُعْرٌ: ایک قسم کا زہریلا گوند۔

قُعْرُورٌ: چھوٹی لکڑی۔ جَمْعُ قُعْرَارِيٍّ. يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ النَّعَارِيُّ - کچھ

لوگ آگ سے نکلیں گے، وہ اس طرح بوھیں گے جیسے لکڑیاں بوھتی ہیں۔

قُعٌّ: تے کرنا۔

قُعْلٌ: بکری یا گائے یا اونٹنی کا زائیدہ تھمن والا ہونا۔ ضرورت سے زیادہ چیز۔ زائد دانت جو دیگر

دانتوں سے الگ ہو۔

تُعَلَّبُ: لومڑی۔ اَرْضٌ مُثْعَلِبَةٌ۔ بہت لومڑیوں والی زمین۔ عَنَبُ الثَّعْلَبِ۔ مکوہ۔ مشہور ذوا۔
تُعَاءُ: بکری کا آواز کرنا۔ میانا۔

تُعَامَةُ: ایک قسم کی سفید گھاس۔ ایک درخت جو پہاڑ کی چوٹی پر اگتا ہے۔ اور اس کا پھل اور پھول سفید ہوتے ہیں۔ كَانَ رَأْسُهُ تُعَامَةً۔ گویا اس کا سر ثعامہ تھا یعنی بالکل سفید۔

تُعَبُّ: ذبح کرنا۔ گڑھے یا نالے میں بچا ہوا تھوڑا سا پانی۔

تُعَبُّ: وہ گڑھا جو پہاڑ کی چوٹی پر ہو اور اس میں برسات کا پانی جمع ہوتا ہو۔

تُعْرُ: سوراخ کرنا۔ شگاف ڈالنا۔ کسی کا دانت توڑنا۔ وہ مقام جہاں سے دشمن کے آنے کا ڈر ہو۔
ملک کی سرحد۔ چوکی۔

تُعِيَّةٌ: بھوک۔ قحط۔

تُعَالٌ: چکی کا نیچے والا پتھر۔ چکی کے نیچے کا پاٹ۔

تُعَا: دہی کے جوش کو کم کرنا۔ حرارت کم کرنا۔

تُعْرُ: ہانکتا۔

تُعْرُوْقٌ: کھجور کی ڈالی۔ جمع تَعَارِيْقٌ۔

تُعَاءُ: رائی۔ حب الرشاد، ہالون۔

تُعْلٌ: دانہ۔ تلچٹ۔ مَنْ كَانَ مَعَهُ تُعْلٌ فَلْيُصْطَنِعْ۔ جس کے پاس غلہ ہو وہ (روٹی) تیار کرے۔

تُعْنٌ: دھکیلنا۔ پیچھے سے آنا۔

تُعْنٌ: موٹا ہونا۔ سخت ہونا۔

تُعْفَةُ: انسان یا جاندار کے جسم کا وہ حصہ جو زمین پر بار بار لگنے سے سخت ہو جاتا ہے۔ مثلاً ٹخنہ۔ گھٹنا
جمع تَعْفَاتٌ۔

تُعَابٌ: آگ جلانے کی چیز۔ دیاسلائی۔ ماچس کی تیلیاں۔ جمع تَعُوبٌ۔

تُعَافٌ: عقل مند عورت۔

تُعَافَةٌ: ہلکا پھلکا۔ عقل مند۔ ہوشیار۔ ذہین۔

تُعَالَةٌ: بھاری ہونا۔ وزنی ہوا۔ دشوار ہونا۔ بیماری کا بڑھ جانا۔

ثَقَبٌ: پھاڑنا۔ سوراخ کرنا۔

ثَقَفٌ: ذہین ہونا۔ ہوشیار ہونا۔ عقل مند ہونا۔ ہلکا پھلکا۔ ماہر ہونا۔

ثَقَفٌ: ہلکا پھلکا۔ عقل مند۔ کوشش کے بعد پالینا۔ ہوشیار۔ ذہین۔ وَهُوَ غُلَامٌ لَقِنٌ ثَقَفٌ۔ وہ ایک ذہین اور عقل مند لڑکا تھا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ۔ اور ان کو قتل کرو جہاں کہیں پاؤ۔

ثَقَافٌ: لڑنے والا۔ جلااد۔

ثَقَلٌ: بھاری ہونا۔ وزنی ہونا۔ دشوار ہونا۔ قوت سماعت کم زور ہونا۔ بیماری کا بڑھ جانا۔ سنجیدہ ہونا۔ فِیْ اُذُنِهِ ثَقَلٌ۔ اس کے کان بھاری ہیں یعنی کم سنتا ہے۔

ثَقُلٌ: ہاتھ میں لے کر وزن کا اندازہ کرنا۔

ثَقُلٌ: مسافر کا سامان۔ بیماری کا بڑھ جانا۔ بھاری چیز۔ وَزَنِی۔ اِنِّیْ تَارِكٌ فِیْكُمْ الثَّقَلِیْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَعَتْرَتِیْ۔ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب دوسرے میرے اہل بیت۔

ثَقُلٌ: بوجھل بنانا۔ بھاری بنانا۔ زیر بار کرنا۔ تھکا دینا۔ پریشان کرنا۔

ثَقُلٌ: وزن۔ بوجھ۔ بھاری پن۔ زحمت۔ پریشانی۔ جَمْعُ اَثْقَالٍ۔ وَاٰخِرَ حِجِّ الْاَرْضِ اَثْقَالُهَا۔ اور زمین اپنے بوجھ نکال باہر کرنے گی۔

ثُقُوبٌ: چمکنا۔ روشن ہونا۔ مہکتا۔ نافذ ہونا۔

ثَقِیْلٌ: بھاری۔ وزنی۔ بوجھل۔ ست۔ سنجیدہ۔ پرسکون۔ پریشان کن۔ جَمْعُ ثَقْلَاءٍ۔

ثُكُلٌ: عورت کا بچہ مر جانا۔ عورت کا کسی محبوب چیز سے محروم ہونا۔

ثُكُلٌ: عورت کا بچہ مر جانا۔ عورت کا کسی محبوب چیز سے محروم ہونا۔

ثُكُلٌ: موت۔ ہلاکت۔ محبوب یا لڑکے کا غائب ہو جانا۔

ثُكْمٌ: تلاش کرنا۔ لازم کر لینا۔ بیان کرنا۔ کھول دینا۔ نشانات کا کھوج لگانا۔

ثُكْمٌ: تلاش کرنا۔ لازم کر لینا۔ بیان کرنا۔ کھول دینا۔ نشانات کا کھوج لگانا۔

ثُكْمٌ: کسی جگہ ٹھہرنا۔ پڑاؤ ڈالنا۔

ثُكْنَةٌ: جھنڈا۔ گردن کا بند۔ پولیس کا مرکز۔ آدمیوں کی جماعت۔ جانوروں کا گلہ۔ کبوتروں کا

غول۔ جمع نُكْحَانَتْ۔

نُكْوُلٌ: وہ عورت جس کا بچہ وفات پا گیا ہو۔

ثَلَابٌ: وہ آدمی جو عیب لگانے کا عادی ہو۔

ثَلَبٌ: ملامت کرنا۔ گالی دینا۔ عیب لگانا۔ ہانکنا۔ دھتکارنا۔ دور کرنا۔

ثَلَبٌ: میلا ہونا۔ سمٹ جانا۔

ثَلَبٌ: عیب دار۔ ٹوٹا ہوا۔ وہ اونٹ جس کے دانت بڑھاپے کی وجہ سے ٹوٹ گئے ہوں۔ جمع

أَثْلَابٌ۔

ثَلَاثٌ: تین تین۔ تین تین کر کے آنا۔ جَاعِلِ الْمَلِكَةِ رُسُلًا أُولَىٰ أَجْنِحَةٍ مِّثْنَىٰ وَثَلَاثٌ

وَرُبَاعٌ: وہ دو دو اور تین تین اور چار چار پروں والے فرشتوں کو اپنا پیغام رساں بنانے والا ہے۔

ثَلَاثٌ: تین عورتیں۔ تیسرا۔ ثَلُثٌ إِذَا خَرَجْنَا لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا۔ جب یہ تین باتیں ظاہر

ہوں گی تو اس وقت کسی کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا۔

ثَلَاثَاءٌ: منگل۔ شنبہ۔

ثَلَاثَةٌ: تین مرد۔ ثَلَاثَةٌ لَا يَكْفِيهِمُ اللَّهُ۔ تین آدمیوں سے اللہ بات نہیں کرے گا۔

ثَلَاثِيٌّ: وہ کلمہ جس میں تین حروف اصلی ہوں۔

ثَلَاجِيٌّ: بہت سفید۔

ثَلُثٌ: تہائی مال لینا۔ تیسرا ہونا۔

ثَلُثٌ: تیسرا حصہ۔ جمع أَثْلَاثٌ۔

ثَلُثٌ: تیسری بار۔ تیسرے دن کا۔ حُمَّى الثَّلَاثِ۔ تیسرے دن کا بخار۔ سَقَى زُرْعَهُ الثَّلَاثِ۔

اس نے اپنی کھیتی کو تیسرے دن پانی دیا۔

ثَلَجٌ: برف۔ پانی کا ٹھنڈا ہونا۔ دل مطمئن ہونا۔ خوش ہونا۔ وَاعْسِلْ خَطَايَاكَ بِمَاءِ الثَّلَجِ

وَالْبَرْدِ۔ میرے گناہوں کو برف اور اُولے کے پانی سے دھو ڈال۔

ثَلَجٌ: خوش ہونا۔ مطمئن ہونا۔

ثَلَجٌ: گندگی سے آلودہ ہونا۔ گوبر میں آلودہ ہونا۔ (گائے کا گوبر کرنا)

ثَلَدٌ: پتلا پاخانہ کرنا۔ ہاتھی کا پتلی لید کرنا۔

ثَلَطُ: پتلا پاخانہ کرنا۔ پتلے پاخانے سے آلودہ کرنا۔ اونٹ یا تیل وغیرہ کا گوبر کرنا۔
 ثَلَعُ: کچلنا۔ توڑنا۔ سرکچلنا۔ وَإِذَا هُوَ يَهُوَى بِالصَّخْرَةِ فَيَنْلَعُ بِهَا رَأْسَهُ۔ وہ پتھر لے کر اس کی
 طرف جھکتا ہے اور اس سے اس کا سر پھیل ڈالتا ہے۔
 ثَلَّ: گرانہ۔ مٹی نکالنا۔ ہلاک کرنا۔ منہدم کرنا۔ سلطنت ختم کرنا۔ دانت گرانہ۔ ہوا کے ساتھ مٹی کا
 اُڑنا۔

ثَلَّ: ہلاکت۔ تباہی۔ بربادی۔

ثَلَّاجُ: برف بیچنے والا۔

ثَلَّاجَةٌ: آکس بکس۔ تھرماس۔ ٹھنڈا کرنے کی مشین۔ برف رکھنے کا صندوق۔
 ثَلَّةٌ: بکریوں کا گلہ، اون، کنویں سے نکلی ہوئی کچھڑ۔ جمع ثَلَالٌ۔ لَمْ تَكُنْ أُمَّهُ بَرَاعِيَةَ ثَلَّةً۔ اس کی
 ماں بکریوں کا گلہ چرانے والی نہ تھی۔

ثَلَّةٌ: لوگوں کی جماعت۔ گروہ۔ جتھا۔ ثَلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثَلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ۔ اگلے لوگوں میں
 سے ایک بڑا گروہ اور پچھلے لوگوں میں سے ایک بڑا گروہ۔ لَهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ
 عَلَى دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَثَلَّتْهُمْ۔ ان کی بستیاں، مال اور جماعت سب اللہ اور اس
 کے رسول کی پناہ میں ہیں۔

ثَلَّجَ: ٹھنڈا کرنا۔ برف بنا دینا۔ برف ملانا۔ جم جانا۔ سن ہو جانا۔

ثَلَمَ: رخنہ ڈالنا۔ شگاف ڈالنا۔ کنارہ توڑ دینا۔ ثَلَمَ فِي مَالِهِ وَفِي عَرَضِهِ۔ اس کے مال اور آبرو
 کو نقصان پہنچانا۔

ثَلْمَةٌ: رخنہ۔ شگاف، عیب، دندانہ۔ ثَوْبِي هُوَ جَدٌ۔ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثَلْمَةِ الْقَدْحِ۔

جہاں سے پیالہ ٹوٹا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے پانی پینے سے منع فرمایا۔

ثَلُوْجٌ: خوش ہونا۔ مطمئن ہونا۔

ثَمَارٌ: پھل۔ میوہ۔

ثَمَالٌ: بالائی۔ جھاگ۔

ثَمَالٌ: فریادرس۔ اپنی قوم کا حامی۔ ثَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْآرَامِلِ۔ یتیموں کے پشت پناہ۔

یہاں کے محافظ (ابوطالب کے ایک قصیدے کا مصرعہ جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم

کی تعریف میں کہا تھا۔)

ثُمَّالَةٌ: تلچھٹ۔ گاد۔ جھاگ۔

ثُمَّامٌ: ایک کم زور گھاس۔ ایک پودا جس کی شاخیں گھنی ہوتی ہیں۔

ثُمَّانٌ: آٹھ عورتیں۔

ثُمَّانِيَةٌ: آٹھ مرد۔

ثُمَّمَّرٌ: انک انک کر بولنا۔ زور زور سے ہلانا۔ برتن کو ڈھانکنا۔ کام کو خراب کرنا۔ ثُمَّمُّوْا بِنَا

سَاعَةً۔ کچھ دیر آرام کے لئے ہمارے پاس ٹھہرو۔

ثُمَّجَا: ملانا۔ خلط ملط کرنا۔

ثُمَّدٌ: تھوڑا پانی۔ وہ جگہ جہاں پانی جمع ہو جائے۔

ثُمَّدًا: کم ہونا۔ ست ہونا، ڈھیلا پڑنا۔ حَتَّى نَزَلَ بِأَقْصَى الْوَادِيَةِ عَلَى ثُمَّدٍ۔ آپ حدیبیہ

کے پر لے سرے پر اترے جہاں تھوڑا سا پانی تھا۔

ثُمَّرٌ: پھل۔ میوہ۔ واحد ثَمْرَةٌ: وَكَانَ لَهُ ثَمْرٌ۔ اور اس کے پاس (اور بھی) پھل تھے۔

ثُمَّرٌ: مال و زر۔

ثَمْرَةٌ: ایک پھل جمع ثَمْرٌ۔

ثُمَّغٌ: سفیدی میں سیاہی ملا دینا۔ رنگوں کو ملانا۔ بھگوننا۔ تر کرنا۔ رنگنا۔

ثُمَّغَةٌ: چوٹی۔ پہاڑ کی چوٹی۔

ثُمَّلٌ: ٹھہرنا۔ قیام کرنا۔ کھلانا۔ پلانا۔

ثُمَّلٌ: مست ہونا۔ نشے میں ہونا۔ مدہوش ہونا۔ مائل ہونا۔

ثُمَّرٌ: روندنا۔ درست کرنا۔ اکٹھا کرنا۔ اصلاح کرنا۔

ثُمَّرٌ: وہاں۔ بعید کے لئے اسم اشارہ۔ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّرَ الْأَخْرَبِینِ۔ اور ہم نے دوسروں کو بھی وہاں پہنچا

دیا۔

ثُمَّرٌ: پھر۔ تب۔ لہذا۔ حرف عطف ہے۔ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ۔ پھر تین بار ایسا ہی کیا۔

ثُمَّرٌ: گھر کا سامان۔ لَا يَمْلِكُ ثُمَّا وَلَا زُمَّا۔ نہ اس کے پاس گھر کا سامان ہے اور نہ گھر کی درستی ہے۔

ثُمَّارٌ: پھل فروش۔ میوہ فروش۔

ثَمْنٌ: بایت۔ قیمت۔ خُذْ أَحَدِي رَاحِلَتِي فَقَالَ بِالثَّمَنِ۔ ابو بکرؓ نے عرض کیا آپ میری اونٹنی لے لیں۔ آپ نے فرمایا میں قیمت دے کر لوں گا۔

ثَمْنٌ: کسی چیز کا آٹھواں حصہ لینا۔

ثَمْنٌ: آٹھواں حصہ۔

ثَمُوذٌ: عرب باندہ کا ایک قدیم قبیلہ۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم۔

ثَمِيرٌ: بار آور۔ پھل دار۔ نتیجہ خیز۔ هَلْ عِنْدَكَ قِرْيٌ قَالَتْ نَعَمْ خُبْرٌ خَمِيرٌ، وَلَبِنٌ ثَمِيرٌ وَخَيْسٌ جَمِيرٌ۔ معاویہؓ نے ایک لڑکی سے پوچھا کیا تیرے پاس مہمان نوازی کا سامان ہے؟ اس نے کہا ہاں خمیری روٹی، بالائی والا دودھ، جما ہوا حیس ہے۔

ثَنَاءٌ: تعریف۔ مدح۔ شکر یہ۔

ثَنَائِيَا: سامنے کے چار دانت (دواوپر کے دو نیچے کے)

ثُنْدُوَةٌ: مرد کا پستان۔ ناک کی نوک۔ ناک کا اگلا حصہ۔

ثُنْدَاءَةٌ: مرد کا پستان۔ ناک کی نوک۔ ناک کا اگلا حصہ۔

ثَنَطٌ: چیرنا۔

ثَنُطُبٌ: پیچرے بنانے والے کی چھری۔ جس سے وہ بانس چیرتا ہے۔

ثَنَّةٌ: ناف اور پیڑ کے درمیان۔ فَأَضَعَهَا فِي ثَنَّتِهِ۔ میں نے اپنا حربہ اس کے پیڑ پر رکھا۔

ثَنِيٌّ: دوہرا کرنا۔ موڑنا۔ لپیٹنا۔ طے کرنا۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَنْتُونُ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَنْخَفُوا مِنْهُ۔ دیکھو!

وہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں۔

ثَنِيٌّ: وہ جانور جس کے اگلے دانت گر گئے ہوں۔ جَمْعُ ثَنَاءٍ وَثَنِيَانٌ۔

ثَنِيَّةٌ: پہاڑی راستہ۔ سامنے والے چار دانتوں میں سے ایک۔ مَسْتَقِيٌّ كِي هَوِيَّيْ حِيْرٍ۔ الشَّهَادَةُ ثَنِيَّةٌ

اللَّهِ فِي الْخَلْقِ۔ شہید لوگ مخلوق میں اللہ کے مستقی ہیں۔

ثَوَاءٌ: ٹھہرنا۔ قیام کرنا۔ اترنا۔

ثَوَابٌ: اعمال کا بدلہ۔

ثَوَارَانٌ: جوش میں آنا۔ جوش مارنا۔ اڑنا۔ کودنا۔ حملہ کرنا۔

ثَوْبٌ: لوٹنا۔ جمع ہونا۔ کپڑا (ہر قسم کا) بھر جانا۔ حوض میں پانی جمع ہو جانا۔ لباس۔

ثَوْبَانٌ: تن درستی کی طرف آنا۔ دبلے پن کے بعد موٹا ہو جانا۔
 ثَوْجٌ: ٹوکرا۔ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی مٹی اٹھانے کی ٹوکری۔
 ثَوْخٌ: گھس جانا۔

ثَوْرٌ: جوش میں آنا۔ جوش مارنا۔ اڑنا۔ کودنا۔ حملہ کرنا۔ بیل۔ کلمے کا ایک پہاڑ جہاں ہجرت کے
 موقع پر آپ نے حضرت ابو بکر کے ہم راہ قیام فرمایا تھا۔
 ثَوْرَةٌ: بغاوت۔ انقلاب۔ جوش۔ گائے۔ جمع ثَوْرَاتٌ۔
 ثَوْلٌ: احق ہونا۔ دیوانگی کے آثار ظاہر ہونا بے عقل ہونا۔ بہادینا۔ چکر آنا۔ شہد کی کھبیوں کی
 جماعت۔

ثَوْمٌ: لہسن۔

ثَوْمَةٌ: لہسن کی ایک پوتھی۔

ثَوَارٌ: بہادر لوگ۔

ثَوِيلَةٌ: لوگوں کا انبوه۔ بڑا گروہ۔ قبیلے کے جمع ہونے کی جگہ۔

ثَوِينِيٌّ: پلپتھن۔ روٹی کے پیڑوں میں لگانے کا خشک آنا۔

ثَوِيٌّ: ٹھہرنا۔ قیام کرنا۔ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًّا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتَلَوْنَا عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا
 مُرْسِلِينَ۔ اور آپ مدین کے لوگوں میں نہیں رہتے تھے کہ ان کے سامنے ہماری آیتیں
 تلاوت کرتے اور لیکن ہم ہی رسول بھیجے والے ہیں۔ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى
 يُخْرِجَهُ۔ مہمان کے لئے مناسب نہیں کہ میزبان کے پاس اتنا ٹھہرے کہ اس کو تنگ
 کر دے۔

ثَهَاتٌ: آواز کرنا۔

ثَهْتٌ: آواز کرنا۔

ثَهْلٌ: زمین پر پھیل جانا۔

ثَهُوٌ: حماقت۔

ثَهُودٌ: پورے اعضاء والا موٹا تازہ لڑکا۔

ثِيَّةٌ: بکریوں کا باڑہ جہاں وہ رات کو رہتی ہیں۔

ثَبَلَةٌ: عقل مندی کے بعد بے وقوف ہو جانا۔ موٹا آدمی جس میں بھلائی کا گمان ہو۔
 تَبِيحٌ: نرم چیز میں گھس جانا۔
 تَبِيلٌ: اونٹ کے ذکر کی تھیلی۔ باریک باریک شانوں والی ایک قسم کی بوٹی۔
 تَبِينٌ: دریا سے موتی نکالنے والا۔
 تَبِيَّةٌ: وہ مرد یا عورت جس کا نکاح ہو چکا ہو۔

باب الجیم

جَابٌ: مال کمانا۔ گيرو مٹی بیچنا۔ جنگلی گدھا۔ جَابُ الصَّبْرِ۔ بڑے صبر والا۔
 جَابِرٌ: ٹوٹی ہوئی ہڈی جوڑنے والا۔ زور والا۔ قاہر و غاصب۔ یا جَابِرُ كُلِّ كَسْبِيرٍ۔ اے ہر ٹوٹے ہوئے کے جوڑنے والے۔
 جَوَانِرٌ: آواز سے دغا کرنا۔ گڑگڑا کر دغا کرنا۔ إِذَا هُمْ يَجْنُرُونَ۔ جب وہ چلا اٹھیں گے۔
 جَوءٌ وَنَتْ: ڈر جانا۔
 جَوءٌ جَوءٌ: پرندے کا سینہ۔ درندے کا سینہ۔ سینے کی ہڈیوں کے جمع ہونے کی جگہ۔ جہاز یا کشتی کا اگلا حصہ۔
 جَوءٌ اَبَةٌ: منہ بد شکل ہونا۔
 جَمِيءٌ جَمِيءٌ: ایک آواز جس سے اونٹ کو پانی پلانے کے لئے بلایا جاتا ہے۔ جَاخَاتٌ بِالْاِبِلِ۔ میں نے اونٹ کو پانی پینے کے لئے بلایا۔
 جَابِرَةٌ: بھاگنا، دوڑنا۔
 جَابِيٌّ: وصول کنندہ۔ ٹیکس وصول کرنے والا۔ ٹڈی۔ جمع جَابِيَّةٌ۔
 جَابِيَّةٌ: حوض جس میں پانی اکٹھا کیا جائے۔ جمع جَوَابٍ۔ وَجْفَانٍ كَالْجَوَابِ۔ اور حوضوں کی مانند لگن
 جَابِيَّةٌ: ایک بستی کا نام۔
 جَاثٌ: خبر نقل کرنا۔ اٹھتے وقت بھاری ہونا۔

جَارٌ: آواز بلند کرنا۔ گرجنا۔ تیل یا گائے کا ڈکارنا۔ پودے کا لمبا ہونا۔ سینے میں کوئی چیز اٹکنا۔
جائٹوم: سینے پر محسوس ہونے والا دباؤ جس کے باعث آدمی حرکت نہ کر سکے۔ بھیا تک خواب۔
جاش: دل۔ سینہ۔ نفس۔ غَضُوْاْ لَا بَصَارَ فَإِنَّهُ أَرْبَطُ لِلْجَاشِ، نگاہیں نیچی رکھو کیوں کہ اس سے
دل مضبوط رہتا ہے۔

جائی: کانا۔

جباء: چھپ جانا۔ ہٹ جانا۔ برا جانا۔ نکلنا۔ اچھٹنا۔
جبا: حوض یا کنوے سے پانی نکالنے کی جگہ۔ فَقَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى
جَبَاهَا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کی منڈیر پر بیٹھے۔
جَبَابٌ: سخط قحط۔

جَبَانٌ: نامرد۔ بزدل۔ کم زور دل۔

جَبَانَةٌ: نامردی۔ بزدلی۔ کم زور دلی۔

جَبَاوَةٌ: اکٹھا کرنا۔ محصول جمع کرنا۔ جمع کرنا۔

جَبَانِيَةٌ: جمع کرنا۔ اکٹھا کرنا۔

جَبٌ: چھپ جانا۔ ہٹ جانا۔ برا جانا۔ نکلنا۔ اچھٹنا۔ فَلَمَّا رَأَوْنَا جَبْنُوْنَا مِنْ أَحْبَبِيْتِهِمْ۔ جب
انہوں نے ہمیں دیکھا تو اپنے ڈیروں سے نکل آئے۔

جَبٌ: کاشا۔ اِنَّ الْاِسْلَامَ يَجِبُ مَا قَبْلَهُ۔ بے شک اسلام اپنے سے پہلے والے کفر اور گناہوں
کو مٹا دیتا ہے۔

جَبَارٌ: سرکش۔ زبردست۔ لمبا درخت۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام۔ نَحْلَةٌ: جَبَارَةٌ: کھجور کا
بہت لمبا درخت۔ حَتَّى يَضَعَ الْجَبَارُ فِيْهَا قَدَمَهُ۔ یہاں تک کہ اللہ اپنا قدم اس
(دوزخ) میں رکھ دے گا۔

جَبَّاسٌ: چونہ بنانے والا۔ چونا فروش۔ سخت مزاج۔ بد اخلاق۔

جَبَّاسَةٌ: چونے کی بھٹی۔

جَبَانٌ: جنگل۔ مقبرہ۔ پیر فروش۔ فَلَمَّا كُنَّا بِظَهْرِ الْجَبَانِ۔ جب ہم جنگل کی بلندی میں پہنچے۔

جَبَانَةٌ: جنگل۔ مقبرہ۔ صحرا۔

جَبَبٌ: بھاگ کر تیز چلنا۔ گھوڑے کے زانو تک سفیدی ہونا

الْمُتَمَسِّكُ بِطَاعَةِ اللَّهِ إِذَا جَبَبَ النَّاسُ عَنْهَا كَالْكَارِ بَعْدَ الْفَارِ
(جب لوگوں نے اللہ کے حکم پر چلنا چھوڑ دیا ہو) اس وقت اس پر عمل کرے تو اس کو
اتنا ثواب ہوگا جیسے جہاد میں بھاگنے والے کے بعد حملہ کرنے والے کو۔

جَبَبٌ: بت۔ کاہن۔ جادوگر۔ شیطان۔ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبِّ وَالطَّاغُوتِ۔ وہ بتوں اور شیطان
پر ایمان رکھتے ہیں۔

جَبْدًا: گلا گھٹنا۔ اچھو آنا۔

جَبْدٌ: کھینچنا۔ انگور کا چھوٹا اور خشک ہونا۔ فَجَبَدْنِي رَجُلٌ مِّنْ خَلْفِي۔ ایک شخص نے مجھے پیچھے
سے کھینچا۔

جَبْرٌ: باندھنا۔ جوڑنا۔ نیکی کرنا۔ درست ہونا۔ ہم دردی کرنا۔ مہربانی کرنا۔

جَبْرُوتٌ: قدرت۔ طاقت۔ عظمت۔ زور۔

جَبْسٌ: چونا۔ بے حس۔ بے شعور۔ کمینہ۔ اترانے والا۔

جَبَلٌ: پہاڑ۔ سردار۔ بجیل۔ جمع جِبَالٌ۔ اِنِّي وُلِدْتُ بِالْجَبَلِ۔ میں پہاڑ پر پیدا ہوا۔

فِي السَّهْلِ يَنْبُتُ الزَّرْعُ لَا فِي الْجَبَلِ

کھیتی نرم ہم وار زمین پر ہوتی ہے نہ کہ پہاڑ پر۔

جَبَلٌ: جماعت۔ قوم۔ امت۔ گروہ۔ وَلَقَدْ أَضَلُّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا۔ اور البتہ وہ (شیطان)

تم میں سے ایک کثیر مخلوق کو گم راہ کر چکا۔

جَبَلٌ: پیدا کرنا۔ ڈھالنا۔ صورت بنانا۔ باندھنا۔ مضبوط کرنا۔

جَبَلٌ: خلقت۔

جِبَلَةٌ: خلقت۔ فطرت۔ مزاج۔ قوم۔ امت۔ وَالتَّقْوَى الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولَىٰ۔ اور

اس سے ڈرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلی مخلوق کو پیدا کیا۔

جَبُوبٌ: سخت زمین۔ مٹی۔ اِنَّ رَجُلًا مَّرًّا بِجَبُوبٍ بَدْرٍ۔ ایک شخص بدر کی سخت زمین یا ڈھیلوں

پر سے گزرا۔

رَأَيْتُ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَيَسْجُدُ عَلَى الْجُبُوبِ

میں نے آپ ﷺ کو نماز پڑھتے اور سخت زمین پر سجدہ کرتے دیکھا۔

جَبْوَةٌ: ڈھیلا۔

جَبْوَةٌ: اکٹھا کرنا۔ محصول جمع کرنا۔ جمع کرنا۔

جَبْهًا: کشادہ پیشانی والا ہونا۔

جَبَةٌ: پیشانی پر مارنا۔ بری طرح پیش آنا۔ سامنے آجانا۔

جَبْهَةٌ: ذلت۔ رسوائی۔ پیشانی۔ جماعت۔ قوم کا سردار۔ چاند۔ گھوڑے۔ جمع جَبَاهٌ۔ لَيْسَ فِي

الْجَبْهَةِ صَدَقَةٌ: گھوڑوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔

جَبِيرَةٌ: ٹوٹی ہوئی ہڈی پر باندھی جانے والے لکڑی یا پٹی۔ جمع جَبَائِرُ۔

جَبِيْسٌ: کمینہ۔ رذیل۔

جَبِيْلَةٌ: قبیلہ۔ طبیعت۔ فطرت۔

جَبِيْنٌ: پیشانی۔ جمع أَجْبِيْنٌ۔

جَبِيٌّ: وصول کرنا۔ اکٹھا کرنا۔ جمع کرنا۔

جَحٌّ: بچانا۔ آواز کرنا۔ زچگی کا وقت قریب آنا۔ کھینچنا۔ کھینچ کر نکالنا۔

جَحْجَحًا: سختی۔ سردار

جَحْجَحًا: سختی۔ سردار۔ پلکانا۔ پہل کرنا۔ رکنا۔ جمع جَحْجَحَةٌ۔

جَيْشٌ: لشکر۔ جمع جَيْوشٌ۔

جُبَارٌ: بے کار۔ رائیگاں۔ ذَهَبُ دُمَّةٍ جُبَارًا۔ اس کا خون رائیگاں گیا۔ حَرْبٌ جُبَارٌ۔ وہ لڑائی

جس میں نہ دیت ہونہ قصاص۔

جُبَلٌ: دجلہ کے کنارے ایک بستی۔

جُبَلَةٌ: کثرت۔ خشک سال۔

جُبُوَّةٌ: چھپ جانا۔ ہٹ جانا۔ بُر ا جانا۔ نکلنا۔ اچلنا۔

جُبَاءٌ: نامرد۔ بزدل۔ ڈرپوک۔

جُبَّةٌ: مشہور لباس جو کپڑوں کے اوپر پہنا جاتا ہے۔

جُبٌّ: کنواں گڑھا۔ جمع جُبَابٌ۔

جُبُجُبٌ: ہم وار زمین۔

جُبْنَةُ: پیر کا ٹکڑا۔

جُبْنٌ: پیر۔ بزدلی۔ کمزور دلی۔ مَاءُ الْجُبْنِ۔ چھاپھ۔

جُنَاءٌ: شخص۔ جزا۔ بدلہ۔ مقدار۔ تخمینہ۔ تقریباً۔

جُنَاءٌ: شخص۔ جزا۔ بدلہ۔ مقدار۔ تخمینہ۔ تقریباً۔

جُنَّةٌ: جسم۔ مردہ جسم۔ لاش۔ جمع أَجْنَاثٌ۔

جُنَّمَةٌ: بہت سونے والا۔ ست۔ کابل۔

جُنْتُ: ڈرنا۔ کاٹنا۔ جڑ سے اکھاڑنا۔ مارنا:

فَإِذَا الْمَلِكُ الَّذِي جَاءَ نَبِيَّ بَحْرَاءَ فَجَنَّتْ مِنْهُ

کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ ہے جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، میں اس کی وجہ

سے ڈر گیا۔

جُنْتُ: چھوٹی جھاڑی۔ مری ہوئی ٹڈی۔ شہد کی مردہ مکھی۔

جَنُجَانُ: ایک پودا جس کا پھول خوش بودار زر درنگ کا ہوتا ہے۔

جَنَمٌ: زمین سے لگ جانا۔ اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ سینے کے بل گرنا۔ زمین سے سینہ لگانا۔ فَاصْبَحُوا

فِي دِيَارِهِمْ جَانِمِينَ۔ سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔

جَنَوَةٌ: مٹی کا ڈھیر۔ پتھروں کا ڈھیر۔ قبر۔ جسم۔ لاش۔ جمع جُنَى وَجُنَى. رَأَيْتُ قُبُورَ الشُّهَدَاءِ

جُنَا۔ میں نے مٹی کے ڈھیروں کی طرح شہیدوں کی قبریں دیکھیں۔

جُنَّمَةٌ: کابل۔ ست۔

جُنَّمَةٌ: جھاڑی۔

جُنَمٌ: بڑا سونے والا۔

جُنْمَانٌ: جسم۔ بدن۔ شخص۔ ذات۔

جُنُوءٌ: دوزانوں بیٹھنا۔ گھنٹوں کے بل بیٹھنا۔ انگلیوں کے بل کھڑا ہونا۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَانِيَةً۔

اور آپ ہر امت کو گھنٹوں کے بل گرا ہوا دیکھیں گے۔ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّ لَهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ

جَيْشًا۔ پھر ہم ان کو دوزخ کے گرد اس حالت میں لائیں گے کہ وہ اوندھے گرے ہوئے

ہوں گے۔

جُنُوءٌ: مٹی کا ڈھیر۔ پتھروں کا ڈھیر۔ قبر۔ جسم۔ لاش۔

جَنُومٌ: زمین سے لگ جانا۔ اپنی جگہ سے نہ بلنا۔ سینے کے بل گرنا۔

جَنِيثَةٌ: کھجور کا پودا۔ جمع جَنِيثٌ۔

جَنِيٌّ: دو زانوں بیٹھنا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھنا۔ انگلیوں کے بل کھڑا ہونا۔

جُنْبُدَةٌ: بلند اور گول زمین۔

جُنْبُدٌ: گل اتار۔ گل سرخ۔